

برائے فوری اجراء

## سٹی نے اپنے انقلابی سینٹر فار انوویشن کے لیے آرکیٹیکٹ کے طور پر ڈائمنڈ شمٹ کو منتخب کر لیا ہے

برامپٹن، آن (27 جولائی 2021) – اپنے سنٹر فار انوویشن (CFI) کے لیے آرکیٹیکٹ کے انتخاب کے ساتھ، سٹی ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کو حیات نو بخشنے اور معاشی توانائیوں کو سامنے لانے کے اپنے کام کو جاری رکھ رہا ہے۔

سٹی نے CFI کے ڈیزائن کا پراجیکٹ کینیڈین آرکیٹیکٹس، **ڈائمنڈ شمٹ**، کو دیا ہے، جو پوری دنیا میں ثقافتی، تعلیمی اور شہری جگہوں کے لیے پرجدت ڈیزائن فراہم کرتے ہیں۔ ڈائمنڈ شمٹ کے بہترین جانے والے پراجیکٹس میں سینٹ آف کینیڈا کی عمارت؛ ویکوور میں ایملی کارر یونیورسٹی آف آرٹ اینڈ ڈیزائن؛ سینٹ پیٹرزبرگ میں میرنسکی II تھیٹر، روس؛ اوٹاوا میں نیشنل آرٹس سنٹر؛ ٹورانٹو کا فور سیزنز سنٹر فار دی پرفارمنگ آرٹس اور دی گلوب اور میل سنٹر؛ واٹر لو میں ولفرڈ لوریئر یونیورسٹی کا لیزارڈس ہال اور برامپٹن کا اپنا پیل میموریل سنٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنسیس شامل ہیں۔ ڈائمنڈ شمٹ اوٹاوا پبلک لائبریری اور لائبریری اینڈ آرکائیوز کینیڈا (OPL-LAC) کی مشترکہ سہولت گاہ کا ڈیزائن بھی بنا رہے ہیں۔

شہری کمیونٹی، تاریخی سیاق و سباق اور تخلیقی جگہ سازی سے ترغیب شدہ ڈیزائنز پر توجہ اور بامقصد طور پر بنی ہوئی، انتہائی قابل استحکام والی کم کاربن اور کم توانائی والی عمارتوں کے عزم کے ساتھ، ڈائمنڈ شمٹ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ایک انقلابی آئیکن کی تیاری کے لیے بہترین انتخاب ہے۔

CFI برامپٹن کی ڈاؤن ٹاؤن کور میں مرکزی طور پر واقع ہو گا اور حال اور مستقبل میں بعد از ثانوی تعلیم کے اداروں، مثلاً الگوما یونیورسٹی، ریٹرسن یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف گونیلف ہمبر، کی شہر میں موجودگی میں معاونت فراہم کرے گا۔ یہ بعد از ثانوی تعلیم کے اداروں کو مقامی کاروباروں اور اسٹارٹ اپس کے ساتھ مربوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا اور برامپٹن کی افرادی قوت کو مستقبل کی بامہارت نوکریوں کے ساتھ جوڑنے میں مدد دے گا۔ CFI سٹی کے ڈاؤن ٹاؤن کے مرکز میں اہم تحریک فراہم کرے گا اور سہولت گاہ کا ڈیزائن عمارت کے اندر اور اس کی تمام سڑکوں اور شہری ڈیزائن میں ایک مثبت اور پرتعامل صارف تجربہ فراہم کرے گا۔

برامپٹن کے بڑھتے ہوئے انوویشن ڈسٹرکٹ کے حصے کے طور پر، سنٹر فار انوویشن ایک اشتراکہ جگہ ہو گا، جس میں ایک نئی سنٹرل لائبریری شامل ہو گی، جو ڈیجیٹل تخلیق اور پروگرامنگ، پیشکشوں اور آڈیو ریکارڈنگ، کئی صلاحیتوں کے لیے معاون ٹیکنالوجیاں اور ثقافتی دنوں کی پیشکش کرے گی۔ لائبریری رہائشیوں اور کمیونٹی شراکت داروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے دفاتر کی لچکدار جگہیں فراہم کرے گی۔

CFI ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن گو اسٹیشن سے سٹی میں داخل ہونے یا نکلنے والے ریل کے مسافروں کے لیے ایک گیٹ وے اور سنگ میل ہو گا۔ یہ برامپٹن کے تمام رہائشیوں اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹی کے طلباء کو خدمات کو فراہم کرے گا اور ایلیمینٹری، ثانوی اور بعد از ثانوی کے طلباء کو ایک دوسرے اور ساتھ ہی ساتھ، رہائشیوں، کاروباری کمیونٹی اور صنعت کے ساتھ ایک اشتراکی ماحول، جو تجرباتی تعلیم کو فروغ دیتا ہو، میں رہ کر تعامل کرنے، جدت لانے اور مل کر کام کرنے کے مواقع فراہم کرے گا

تعمیر کا آغاز 2023 میں متوقع ہے۔

پورے کووڈ-19 کے دوران، سٹی نے ڈاؤن ٹاؤن میں سرمایہ کاری لانے اور برامپٹن کے مرکز میں ترقیاتی کاموں کو حیات نو بخشنے اور بہتر بنانے کے لیے اپنا کام جاری رکھا ہے۔ کونسل کے اس دور کی ترجیحات پر کام کرتے ہوئے، موجودہ طور پر زیر عمل انقلابی اقدامات مکمل کمیونٹیاں بنانے، معاشی توانائیوں کو سامنے لانے اور انوویشن کوریڈور میں برامپٹن کے منفرد مقام کو مضبوط بنانے میں مدد دیں گے۔

CFI کے متعلق مزید جاننے کے لیے، [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں

فوری حقائق:

- مارچ 2021 میں، سٹی نے برامپٹن میں بعد از ثانوی تعلیم کے مواقع کو بڑھانے کے صوبائی اعلان کو خوش آمدید کہا، بشمول ریٹرنس یونیورسٹی میں ایک طبی ادارہ۔
- 7 جولائی کو اپنی میٹنگ کے دوران، کونسل نے مستقبل میں ایک برامپٹن اسکول آف میڈیسن کے لیے فنڈ فراہم کرنے میں مدد کے لیے ریٹرنس یونیورسٹی کے لیے \$1 ملین کی منصوبہ بندی گرانٹ منظور کی۔
- 16 جون 2021 کو، سٹی اور یونیورسٹی آف گوئیلف-ہمبر نے اپنے تعلیمی ادارے کو سنٹر فار انویشن کے ایک بڑے حصے کے طور پر برامپٹن میں منتقل کرنے کے اپنے ارادے کی تصدیق کی۔
- سٹی ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کے مرکز میں جدت اور انٹر پرائیوٹرشپ کا ایک ماحول بنا رہا ہے۔ انویشن ڈسٹرکٹ پورے علاقے میں اسٹارٹ اپس اور ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی نوواردین کو معاونت فراہم کرنے، جس میں ہر مرحلے پر موجود کمپنیوں، بشمول اسٹارٹ اپ، اسکیل اپ، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور بڑے کاروباری ادارے، کے لیے وسائل موجود ہوں، کے ہدف کے ساتھ پرجدت ٹیلنٹ پیدا کرے گا۔ انویشن ڈسٹرکٹ میں \$21 ملین سے زائد رقم کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جو ہماری اکنامک ریکوری اسٹریٹجی کا ایک کلیدی حصہ ہے۔

### اقتباسات

"برامپٹن ایک پرجوش تبدیلی کے درمیان میں ہے اور ہمارا سنٹر فار انویشن ہمارے شہر کو تعلیم اور جدت کے ایک بڑے مرکز میں تبدیل کرنے میں مدد دینے میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ڈائمنڈ شمٹ – کینیڈا کی ایک اعلیٰ فرم – کے انتخاب کے ساتھ، ہم ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کی معاشی توانائیوں کو سامنے لانے اور اپنے رہائشیوں کو یہیں اپنے گھر میں اعلیٰ معیاری تعلیم اور مہارتوں کے مواقع فراہم کرنے کے ایک قدم مزید قریب آگئے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے انویشن ڈسٹرکٹ کی مسلسل تیاری ہماری اکنامک ریکوری اسٹریٹجی میں ایک کلیدی عمل ہے اور سنٹر فار انویشن اس علاقے میں مستقبل کی بڑھوتری کو شروع کرنے اور ہماری بحالی میں مدد دینے میں کلیدی ہو گا۔ میں پرجوش ہوں کہ سٹی نے ایک آرکیٹیکٹ منتخب کر لیا ہے اور سنٹر فار انویشن کی وجہ سے ہمارے ڈاؤن ٹاؤن میں آنے والے فوائد کو دیکھنے کے لیے پر امید ہوں۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کو حیات نو بخشنے اور مکمل کمیونٹیاں بنانے، جہاں ہمارے رہائشی رہ، سیکھ، کام کر اور کھیل سکیں، کے لیے وقف ہے۔ ہمارے انقلابی سنٹر فار انویشن کے لیے آرکیٹیکٹ کے طور پر ڈائمنڈ اینڈ شمٹ آرکیٹیکٹس آئی این سی کے انتخاب کے اس اعلان کے ساتھ، ہم ایک مضبوط تر اور زیادہ با اثر برامپٹن کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن میں ہماری ٹیم ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کی توانائیوں کو سامنے لانے کے لیے وقف ہے اور طلباء اور کورباروں کی ترقی کے لیے ایک ماحول کی تعمیر جاری رکھ رہی ہے۔ کینیڈا کے انویشن کوریڈور میں ہمارے بہترین مقام کے ساتھ، سٹی اپنی پوری کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے شہر کو تعلیم اور جدت کے ایک مرکز میں بدلنے کے لیے رہنماء کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم سنٹر فار انویشن پراجیکٹ کو آگے بڑھتا دیکھنے اور اپنے رہائشیوں کے لیے نتائج حاصل کرنا جاری رکھنے کے لیے پر امید ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"ڈائمنڈ شمٹ کے لیے سنٹر فار انویشن، جو شہری نظریے کے لیے ایک غیر معمولی قدم ہے، کے ڈیزائن پر سٹی آف برامپٹن کے ساتھ اشتراک میں کام کرنا اعزاز کی بات ہے۔"

- ڈان شمٹ، پرنسپل، ڈائمنڈ شمٹ

"ہم اس انقلابی پراجیکٹ کا حصہ بننے پر پرجوش ہیں۔ سنٹر فار انویشن ہماری ٹیم کے لیے جدت، لچک اور استحکام کا راستہ نقش کرنے کا ایک غیر معمولی موقع ہے۔"

- مائیک سزابو، پرنسپل، ڈائمنڈ شمٹ

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)